

# Psa

## Chapter 27

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֶלְדָּוָד	וַיְהִי	אֶרְוִי	וַיִּשְׁעִי	מִנִּי	אֵרָא	וַיְהִי	מַעֲזוֹ-	חַיִּי	מִנִּי
	داؤد-کا	یہوواہ	میری-روشنی-ہے	اور-میری-نجات	کس-سے	ڈروں-گا	یہوواہ	پناہ	میری-زندگی-کا	کس-سے
	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4581</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H4310</a>

אֶפְחָד:  
خوف-کھاؤں-گا  
[H6342](#)

کھاؤں؟ دہشت سے کس میں ہے، گاہ پناہ کی جان میری رب ڈروں؟ سے کس میں ہے، نجات میری اور روشنی میری رب زیور۔ کا داؤد

2	בְּקֶרֶב	וְעָלִי	מִרְעִים	לֶאֱכֹל	אֶת-	בְּשָׂרִי	צָרִי	וְאֵיבֵי
	جب	-میرے-خلاف	بدکار	-کھانے-کے-لیے	-کو	میرا-گوشت	میرے-تنگ-کرنے-والے	اور-میرے-دشمن
	<a href="#">H7126</a>			<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1320</a>		<a href="#">H0341</a>

לִי  
-مجھ-پر  
הַמָּזָה  
وہ  
כִּשְׂלוֹ  
ٹھہوکھر-کھائے  
וְנַפְלוֹ:  
اور-گر-گئے  
[H1992](#)  
[H3782](#)  
[H5307](#)

گے۔ جائیں گر کر کھا ٹھوکر وہ تو پڑیں ٹوٹ پر مجھ دشمن اور مخالف میرے جب لیں، کر بڑبڑ مجھے تاکہ کریں حملہ پر مجھ شریب جب

3	אֶם-	תְּחַנְּנֶה	וְעָלִי	מִחַנְּנֶה	לֹא-	יִרְא	לִבִּי	אֶם-	תְּקוּם	עָלִי	מִלְחָמָה
	اگر	خیمہ-لگائے	-میرے-خلاف	لشکر	نہیں	ڈرے-گا	میرا-دل	اگر	اٹھے	-میرے-خلاف	جنگ
		<a href="#">H2583</a>		<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>					<a href="#">H4421</a>

בְּזֹאת  
-اس-میں-بھی  
אֵנִי  
میں  
בּוֹטָח:  
بھروسہ-رکھتا-ہوں  
[H2063](#)  
[H0589](#)  
[H0982](#)

گا۔ رہے قائم بھروسا میرا جائے چھڑ جنگ خلاف میرے گو گا، کھائے نہیں خوف دل میرا لے گھیر مجھے فوج گو

4	וְאַחַת	שָׂאֲלָתִי	מֵאֵת-	וַיְהִי	אוֹתָהּ	אֲבַקֵּשׁ	שְׁבָתִי	בְּבֵית-	וַיְהִי	כָּל-
	ایک-بات	میں-نے-مانگی	-سے	یہوواہ	اُسے	میں-ڈھونڈتا-ہوں	میرا-بسنا	-گھر-میں	یہوواہ-کے	سب
	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7592</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>

יָמֵי  
دنوں  
חַיִּי  
میری-زندگی-کے  
לְחַזוֹת  
-دیکھے-کے-لیے  
בְּנַעֲם-  
-خوبصورتی-کو  
וַיְהִי  
یہوواہ-کی  
וּלְבָקֵר  
اور-دریافت-کرنے-کے-لیے  
בְּהִיכָלוֹ:  
-اُس-کے-بیکل-میں  
[H3117](#)  
[H2372](#)  
[H5278](#)  
[H3068](#)  
[H1239](#)  
[H1964](#)

کی اُس کہ سکوں، ہو اندوز لطف سے شفقت کی اُس کر رہ میں گھر کے رب جی جیتے کہ یہ ہوں۔ چاہتا بات ہی ایک میں ہے، گزارش ایک میری سے رب سکوں۔ رہ خیال محو کر ٹھہر میں گاہ سکونت

5	כִּי	וַיִּצְפְּנֵנִי	בְּסֻכָּה	בְּיָוֵם	רָעָה	יִסְתַּרְנִי	בְּסֻתָּר	אֶהְלֹא
	کیونکہ	-وہ-مجھے-چھپائے-گا	-اپنے-سائبان-میں	-دن-میں	بُرائی-کے	-وہ-مجھے-چھپائے-گا	-پردے-میں	اپنے-خیمے-کے
		<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H5520</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H5641</a>		<a href="#">H0168</a>

בְּצִוְרֵי  
-چٹان-پر  
יְרוּמֵינִי:  
-وہ-مجھے-بلند-کرے-گا  
[H6697](#)

گا۔ رکھے پر چٹان اونچی کر اٹھا مجھے گا، لے چھپا میں خیمے اپنے مجھے گا، دے پناہ میں گاہ سکونت اپنی مجھے وہ دن کے مصیبت کیونکہ

6	וְעֵלָה	יְרוּם	רֵאשִׁי	עַל	אֵיכִי	סְבִיבוֹתַי	וְאֶזְבְּחָה	בְּאֶהְלוֹ
	اور-اب	بلند-ہوگا	میرا-سر	پر	میرے-دشمنوں-کے	چاروں-طرف	اور-میں-قربانی-کروں-گا	-اُس-کے-خیمے-میں
	<a href="#">H6258</a>				<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H0168</a>

زَبְחֵי	תְּרוּעָה	אֲשִׁירָה	וְאֶזְמְרָה	לִיהוָה:
قربانیاں	خوشی-کی	میں-گاؤں-گا	اور-حمد-کروں-گا	-یہوواہ-کی
<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8643</a>	<a href="#">H7891</a>	<a href="#">H2167</a>	<a href="#">H3068</a>

ساز گا، کروں پیش قربانیاں کر لگا نعرے کے خوشی میں خیمے کے اُس میں ہے۔ رکھا گھیر مجھے نے انہوں اگرچہ گا، ہوں سربلند پر دشمنوں اپنے میں اب گا۔ کروں سرائی مدح کی رب کر بجا

7	שָׁמַעַ	יְהוָה	קוֹלִי	אֶקְרָא	וְחַנּוּנִי	וְעַנּוּנִי:
	سُن	یہوواہ	میری-آواز	میں-پکارتا-ہوں	اور-رحم-کر-مجھ-پر	اور-جواب-دے-مجھے
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7121</a>		

سن۔ میری کے کر مہربانی پر مجھ پکاروں، تجھے میں جب سن آواز میری رب، اے

8	אֶלֶף	אָמַר	לְבִי	בְקִשׁוֹ	פָּנֵי	אֶת־	פְּנֵיךָ	יְהוָה	אֲבַקֵּשׁ:
	-تیرے-لیے	کہا	میرے-دل-نے	ڈھونڈو	میرا-چہرہ	-کو	تیرا-چہرہ	یہوواہ	میں-ڈھونڈتا-ہوں
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1245</a>

ہوں۔ رہا طالب کا چہرے ہی تیرے میں رب، اے ربوا! طالب کے چہرے میرے فرمایا، خود نے تو کہ ہے دلاتا یاد تجھے دل میرا

9	אֶל־	תִּסְתַּר	וּפְנִיךָ	מִמֶּנִּי	אֶל־	תִּטֵּ	בְאָף	עַבְדְּךָ	עֲזָרְתִּי	תְּהִי	אֶל־
	نہ	چھپا	تیرا-چہرہ	مجھ-سے	نہ	بنا	-غضب-میں	اپنے-بندے-کو	میری-مدد	ٹو-رہا-ہے	نہ
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5641</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5833</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0408</a>

تְּשַׁנֵּי	וְאֶל־	תְּעֲזֹבֵנִי	אֶלְהֵי	יִשְׁעֵי:
مجھے-چھوڑ	اور-نہ	مجھے-ترک-کر	خدا-کے	میری-نجات-کے
<a href="#">H5203</a>	<a href="#">H0408</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3468</a>

مجھے خدا، کے نجات میری اے ہے۔ رہا سہارا میرا ہی تو کیونکہ نکال۔ نہ سے حضور اپنے سے غصے کو خادم اپنے رکھ، نہ چھپائے سے مجھ کو چہرے اپنے کر۔ نہ ترک مجھے چھوڑ، نہ

10	כִּי־	אָבִי	וְאִמִּי	עֲזָבוּנִי	וַיהוָה	יִאֲסֹפֵנִי:
	کیونکہ	میرے-باپ	اور-میری-ماں	مجھے-چھوڑ-دیں	لیکن-یہوواہ	مجھے-اٹھا-لے-گا
		<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0517</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0622</a>

گا۔ لائے میں گھر اپنے کے کر قبول مجھے رب لیکن ہے، دیا کر ترک مجھے نے باپ ماں میرے کیونکہ

11	הוֹרִנִי	יְהוָה	דְּרָכֶךָ	וְנַחֲנִי	בְּאַרְחַ	מִישׁוֹר	לְמַעַן	שׁוֹרְרִי:
	مجھے-سکھا	یہوواہ	اپنی-راہ	اور-مجھے-چلا	-راستے-میں	سیدھے	-خاطر	میرے-دشمنوں-کے
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H5148</a>	<a href="#">H0734</a>	<a href="#">H4334</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H8324</a>	

ریوں۔ محفوظ سے دشمنوں اپنے تاکہ کر راہنمائی میری پر راستے ہموار دے، تربیت کی راہ اپنی مجھے رب، اے

12	אֶל־	תְּחַנּוּנֵי	בְּנַפְשׁ	צָרִי	כִּי	קָמוּ-	כִּי	עָדִי-	שָׁקַר
	نہ	مجھے-حوالے-کر	-جان-کے	میرے-دشمنوں-کے	کیونکہ	اٹھے-ہیں	-میرے-خلاف	گوایان	جھوٹے-کے
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5315</a>				<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H8267</a>	

יִפְחַ	חַמָּס:
اور-اُگلنے-والا	ظلم
<a href="#">H3307</a>	<a href="#">H2555</a>

ہیں۔ تیار لئے کے کرنے تشدد جو ہیں ہوئے کھڑے اٹھ خلاف میرے گواہ جھوٹے کیونکہ دے، آنے نہ میں لالچ کے مخالفوں مجھے

13	לִדְלֹא	הֵאֲמַנְתִּי	לְרֵאוֹת	בְּטוֹב־	יְהוָה	בְּאַרְץ	חַיִּים:
اگر	میں-نے-یقین-رکھا-ہوتا	-دیکھنے-کے-لیے	-بھلائی	یہوواہ-کی	-زمین-میں	زندوں-کی	
<a href="#">H3884</a>	<a href="#">H0539</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2898</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0776</a>		

گا۔ دیکھوں بھلائی کی رب کر رہ میں ملک کے زندوں میں کہ بے یہ ایمان پورا میرا لیکن

14	קִנְיָה	אֵל-	יְהוָה	הַזֶּק	וַיִּצְטַו	לִבִּי	קִנְיָה	אֵל-	יְהוָה:
	انتظار-کر	کا-	یہوواہ	مضبوط-ہو	اور-ہمت-پکڑے	تیرا-دل	اور-انتظار-کر	کا-	یہوواہ
	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H0553</a>		<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H3068</a>

رہ! میں انتظار کے رب اور ہو، دلیر اور مضبوط رہ! میں انتظار کے رب